

لڑکے نے بتایا کہ جنگل کے پار ایک پہاڑ ہے جہاں وہ پھول
 آتا ہے جس کی خوشبو سے آنکھوں کی کھوٹی بوٹی روٹنی
 لوٹ آتی ہے مگر پہاڑ بہت بلند ہے اور اس پر ریشم
 چٹائیں ہیں گانڈے دار چھاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے پتھر
 ہیں جو راستہ روک لیتے ہیں۔ اس پہاڑ پر جانے
 کے لئے کئی لوگ آئے اور ملے کئے مگر ایسا کوئی شخص
 نہیں آیا جو پھول تک پہنچا ہو۔ شاید اسی لئے دنیا میں
 دکھ اور تکلیف ہے اور انسان روٹنی کی تلاش میں ہے

An old man tells that there is a flower,
 on the other side of mountain, whose
 scent brings back the lost sight. But the
 height of mountain is very large
 and it contains/has many
 thorny bushes and large stones which
 create hurdles in the way to flower.
 Many people have come and gone but no
 one had ever reached ~~upto~~ the flower.
 May be due to this reason, there
 are sorrows and difficulties in
 this world. Hence, man is still
 in search of light.

Punctuation 2020

— / — / — 8:5

You are allowed to submit only one question in one pdf. The remaining questions may be submitted in separate pdfs.

Letters between relatives and friends are called personal letters. The most important thing in such letters is the content. Don't begin with beckneyed phrase like I was delighted to get your letter. received your letter or I have often thought of writing to you. Use a vigorous clear chatty style.

Letters between relatives and friends are called personal letters. The most important thing in such letters is the content. Don't begin with beckneyed phrase like: I was delighted to get your letter; received your ~~high~~ letter; or I have often thought of writing to you. Use a vigorous clear chatty style.